

مشاہیر امت کی پے در پے رخصتی

کاروانِ آخرت براقِ رفتاری کے ساتھ دن بدن اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور یہ اپنے ساتھ ایسے ایسے لعل و گوہر سے زیادہ قیمتی مشاہیرِ شخصیات علماء اور سیاست دان بہائے چلا جا رہا ہے جس کی نظیر و مثل کا دوبارہ ملنا اس عہد زوال اور علمی قحط الرجال میں ناممکن ہے اور عالم اسلام ان نقصانات کا کسی طور پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا لہذا اللہ الممشتکسی۔ بحرِ فنا کی ہر ایک موج ہم نے کیسے کیسے غواصانِ فکر و دانش چھین کے لے جا رہی ہے دستِ اجل کے مضرب سے نغمہ تار حیات مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس سے ہر لمحہ اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا کے نوے پھوٹ رہے ہیں۔ کار جہاں کی بے ثباتی کا ثبوت تو ازل سے سب کے سامنے آشکارا ہے لیکن جس تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ شک یقین میں بدلتا چلا جا رہا ہے کہ شاید نظام کائنات کے اختتام اور شام ہونے میں چند ساعتیں ہی رہ گئی ہیں بہر حال آج راقم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ سب سے پہلے کس شخصیت کا ذکر خیر اور اس کے پھرنے کا ماتم کرے حزن و یاس کے اس پت جھڑکے موسم میں اپنی انگلیاں سرد، جذبات گرم اور قلم او اس اور دل افسردہ ہے۔

یاس و حسرت کی فضا چھائی ہوئی ہے چار سو برقِ غم سے مضطرب احساس کا خرمن ہے آج

تالہ اندوہ ہے ہر بالکبِ مرغانِ سحر نوحہ فریاد ہر آہنگ جان و تن ہے آج

امام حرم عبداللہ بن سبیلؒ: ابھی ماضی کے مشہور امام حرم شہرہ آفاق قاری حضرت امام عبداللہ بن سبیل کی جدائی میں کلماتِ تعزیت راقم کے ذمہ باقی تھے وہ امام حرم جس کی مخصوص گدازی و حجازی قرآنی لے اپنے سامعین اور نمازیوں پر وجد طاری کرتی آپ تین عشروں سے زائد حرم کی کی امامت و خطابت پر فائز رہے آپ نے دنیا بھر میں عالم اسلام اور حرمین شریفین کی بھر پور نمائندگی کی آپ پاکستان بھی تشریف لائے اور خصوصاً جامعہ حقانیہ کو بھی اپنی آمد اور برکات سے مستفید فرمایا آپ سے مکہ مکرمہ میں حضرت والد صاحب مدظلہ کی معیت میں ملاقاتیں رہیں آپ کے انتقال سے سارے عالم اسلام میں دکھ و افسوس کی ایک لہر دوڑ گئی۔

اسکے ساتھ کراچی سے دوسری خبر آئی کہ ملک کے نامور بزرگ سیاست دان جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب پروفیسر غفور احمد بھی ہمیں داغِ مفارقت دے گئے پھر ملک کے ممتاز محقق و دانشور عظیم عالم دین حضرت مولانا عبدالستار تونسوی کا سانحہ ارتحال کی افسوس ناک اطلاع نے دینی حلقوں کو مضطرب کر دیا اسی کیساتھ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ممتاز عالمی